

مجلس اصلاح برائے قیدیان وغیرہ کا تعارف کروائیں، شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات سے آگاہ کریں اور موقع پاتے ہی امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید یا طالب بنائیں ❀ دوران گفتگو ان کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملائیں نہ سر ہلا کر تائید کریں، اختلافی مسائل، فضول گفتگو اور سیاسی معاملات پر گفتگو سے مکمل اجتناب کریں۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ، اخلاص و اخلاقِ حسنہ سے متعلق گفتگو کریں نیز انبیاء و صحابہ و اولیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام وَعَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) کی اسلام کی خاطر قربانیاں اور اصلاحِ امت کے لئے دعوتِ اسلامی اور بانی دعوتِ اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کا کردارِ باصفا جیسے عنوانات پر ہی گفتگو کریں۔ وکلاء سے اپنا ذاتی کام ہرگز نہ کہا جائے۔ ملاقات مختصر (5 سے 12 منٹ) ہو، اگر وہ دلچسپی ظاہر کریں تو مزید وقت بڑھا دیں اور نمایاں وکلاء سے تحریری یا ویڈیو تاثرات حاصل کر کے مع تفصیلات مجلس مدنی چینل کو ارسال/میل فرمادیں ❀ حدیثِ پاک میں ہے ”تَهَادَوْا تَحَابُّوْا“ یعنی ایک دوسرے کو تھوہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ (مؤطا امام مالک، ج ۲، ص ۴۰۷، رقم ۱۷۳۱) پرمٹل کی نیت سے اختتامِ ملاقات پر وکلاء و ججز کو ذاتی طور پر حسب استطاعت اور تحریز اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنا کر مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل اور **میموری کارڈ** وغیرہ بھی تحفہ پیش کریں۔ جو رسالہ/ کتاب **میموری کارڈ** پیش کریں اُسے اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں تاکہ آئندہ ملاقات میں کوئی اور کتاب/رسالہ **میموری کارڈ** پیش کیا جاسکے ❀ مضبوط اور مستقل رابطہ مجلس کے مدنی کام کی جان ہے، جن سے ملاقات ہو ان کا نام اور فون نمبر وغیرہ حاصل کر کے فہرست مرتب کریں اور بالمشافہ، SMS، Email، ضرورتاً فون کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہیں۔ وکلاء و ججز کا ای میل ایڈریس مجلس آئی۔ٹی کو دیں تاکہ وہ مدنی پھول روانہ کرتی رہے ❀ وکلاء و ججز کی مکمل معلومات مثلاً نام، پوسٹل ایڈریس، فون نمبر وغیرہ متعلقہ نگران کو بھی پیش کریں تاکہ مدنی مرکز کی طرف سے ضرورتاً ان سے فوری رابطہ کیا جاسکے۔

یاد رہے! کسی بھی وکیل انج صاحب کی دعوتِ خاص نہ خود اور نہ ہی کسی سے ترکیب بنا کر کریں۔ یہی حکم اسلامی کتب و رسائل اور **میموری کارڈ** وغیرہ کے علاوہ تحائف کا ہے ❀ وکلاء و ججز کے ہاں بیماری، پریشانی، فونگی کے مواقع پر عنخوری (عیادت و تعزیت) کی ترکیب کریں مثلاً تعویذات و مکتوباتِ عطاریہ، فونگی پر غسلِ میت، جنازہ و تدفین اور سوئم، چہلم و برسی پر اجتماع ذکر و نعت اور ایصالِ ثواب کی تراکیب وغیرہ ❀ ربیع الاول، گیارہویں شریف، رمضان المبارک اور سفر حج و سفر مدینہ وغیرہ موقع کی مناسبت سے وکلاء و ججز کے گھروں پر اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب کر کے نیکی کی دعوت کی خوب خوب دُھو میں مچائیں۔ (اجتماع ذکر و

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”وکیلِ عاصیاں و مجرماں تم ہو“ کے 21

حروف کی نسبت سے مجلس وکلاء کے 21 مدنی پھول

فرمان امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ:

❀ دعوتِ اسلامی کا %99.99 مدنی کام انفرادی کوشش سے ممکن ہے۔

❀ **1** فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہے: نَبِيُّهُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ۔ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵) اس لیے مجلس وکلاء کا ہر ذمہ دار امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ”72 مدنی انعامات“ میں سے ”مدنی انعام نمبر 1“ پرمٹل کرتے ہوئے یہ نیت کرتا رہے کہ: ”میں اللہ عزوجل کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دعوتِ اسلامی کے شعبہ مجلس وکلاء کا مدنی کام مدنی مرکز کے طریق کار کے مطابق کروں گا، ان شاء اللہ عزوجل۔“

❀ **2** مجلس وکلاء کا کام، وکلاء و ججز اور اس شعبے سے متعلقہ دفتری عملے کے اسلامی بھائیوں میں تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک **دعوتِ اسلامی** کے پیغام کو عام کرنا اور انہیں دعوتِ اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد ”مجھے اپنی اور ساری دُنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان شاء اللہ عزوجل“ کے مطابق زندگی گزارنے کا مدنی ذہن دینا ہے۔

❀ **3** مجلس وکلاء کے تمام ذمہ داران، رشوت، تعلقات اور مداہنت کے شرعی مسائل سیکھیں، اس کے لیے مکتبہ المدینہ کی کتب و رسائل کا مطالعہ مفید ہے مثلاً: **فیضانِ سنت** صفحہ 539 تا صفحہ 554 ❀ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 428 تا 449 ❀ بہارِ شریعت، جلد سوم، حصہ 16 ❀ نیز فتاویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ 311 تا 331 اور ”دارالافتاء اہلسنت“ سے ضرورتاً شرعی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔

❀ **4** مجلس کے ذمہ داران وکلاء و ججز سے پیشگی وقت لیکر ملاقات کریں ❀ بہتر یہ ہے کہ ملاقات کے لئے 2/3 اسلامی بھائی مل کر جائیں، ملاقات کی ابتداء میں تعارف یعنی تنظیمی ذمہ داری ضرورتاً اپنی تعلیمی قابلیت (Educational Qualification) بیان کرنا مفید ہے ❀ دورانِ ملاقات **دعوتِ اسلامی** کے مدنی کاموں اور اس کے شعبہ جات مثلاً مدنی چینل، مجلس شعبہ تعلیم، مجلس آئی ٹی، دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ (www.dawateislami.net)، مجلس خصوصی اسلامی بھائی،

﴿12﴾ ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب:

#	سطح	ذمہ دار	#	سطح	ذمہ دار
1	ذیلی	ذیلی حلقہ ذمہ دار (کورٹ/کچہری)	4	ریجن	ریجن ذمہ دار
2	کابینہ	کابینہ سطح پر 3 رکنی مجلس	5	ملک	نگران مجلس وکلاء
3	زون	زون ذمہ دار	6	مرکزی مجلس شوریٰ	رکن شوریٰ

ہر کورٹ (سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، تحصیل کورٹ، سیشن کورٹ، سول کورٹ اور دیگر کورٹ) مثلاً لیبر کورٹ، احتساب کورٹ، کنزیومر کورٹ، ڈرگز کورٹ، بینکنگ کورٹ، شریعت کورٹ، انسداد دہشت گردی کورٹ وغیرہ) سطح پر ذیلی مجلس بنائی جائے گا۔ کابینہ سطح پر 3 رکنی مجلس ہوگی، نگران مجلس رکن کابینہ ہوگا۔ ریجن ذمہ داران پاکستان سطح کی مجلس کے رکن ہیں۔ بیرون ملک کے ذمہ داران، نگران مجلس بیرون ملک (رکن شوریٰ) کی اجازت سے اس شعبے میں کسی بھی سطح پر ذمہ دار مقرر کریں۔ یاد رہے! کسی بھی سطح کے اراکین و نگران کی تقرری کے لئے متعلقہ سطح کے نگران کی اجازت ضروری ہے۔ (امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ہر مجلس میں مدنی اسلامی بھائی کے ہونے کو پسند فرماتے ہیں)

﴿13﴾ مدنی مشورے کی تاریخ و مدنی پھول:

#	تاریخ	مدنی مشورہ لینے والے	سطح	شرکاء	مدنی پھول
1	2	نگران کابینہ / کابینہ ذمہ دار	کابینہ	ذیلی ذمہ داران و کابینہ سطح کی 3 رکنی مجلس	انفرادی کارکردگی پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ذمہ داران کے تقریر، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف وغیرہ
2	5	زون نگران / زون ذمہ دار	زون	کابینہ ذمہ داران (بہتر یہ ہے کہ ہر کابینہ کی 3 رکنی مجلس شرکت کرے)	//
3	6	ریجن ذمہ دار / نگران مجلس	ریجن	زون ذمہ داران	//

نعت کا جدول: تلاوت: 5 منٹ، نعت: 5 منٹ، بیان: 19 تا 26 منٹ، دعا: 5 منٹ، سلام: 3 منٹ، ملاقات و انفرادی کوشش: 41 منٹ) میزبان کا پہلے سے ہی ذہن بنا کر تقسیم رسائل (مکتبہ المدینہ کی جاری کردہ کتب و رسائل و میموری کارڈ) کی ترکیب کریں۔

﴿5﴾ وکلاء و ججز کے دفاتر/گھروں میں مدنی چینل کی ترکیب بنائیں۔ انہیں مدنی چینل کے سلسلوں کا تعارف کروائیں اور دیکھتے رہنے کا ذہن بنائیں۔

﴿6﴾ مجلس وکلاء کے ذمہ داران کورٹ، کچہری اور بار ایسوسی ایشن وغیرہ میں (روزانہ) انفرادی کوشش، وقت مقررہ پر مدنی درس (درس فیضان سنت)، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کریں اور ہفتے میں ایک دن مخصوص کر کے مدنی دورہ کی سعادت بھی حاصل کریں نیز کورٹس، بارز، لاء کالج، جوڈیشل کمپلیکس وغیرہ میں شجر کاری کی ترکیب بنائیں۔

﴿7﴾ مجلس وکلاء کے ذمہ داران ہر ماہ وکلاء و ججز کو مدنی قافلوں کے لیے تیار کریں (کم از کم 15 دن قبل مدنی قافلے کی تاریخ طے کر کے اس کا اعلان کریں اور روزانہ رابطہ و انفرادی کوشش کر کے ان کے مدنی قافلے تیار کریں)۔ ان مدنی قافلوں میں نگران ڈویژن مشاورت اور نگران کابینہ اور دیگر اہم تنظیمی ذمہ داران کا سفر زیادہ مفید ہے نیز ان کو مدنی انعامات کے رسائل پیش کر کے روزانہ فکر مدینہ کرنے کا ذہن بھی دیں۔

﴿8﴾ کورٹ کی سالانہ چھٹیوں سے قبل وکلاء و ججز اجتماعات کیے جائیں (پاکستان میں عام طور پر اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں) جولائی کے مہینے میں یہ اجتماعات کر کے 1 ماہ، 12 دن، 3 دن کے مدنی قافلوں کی بھرپور ترکیب بنائی جائے نیز اصلاح اعمال کورس، فرض علوم کورس کے لیے وکلاء، ججز اور دفتری عملے کو تیار کریں۔

﴿9﴾ کابینہ، ملکی یا بین الاقوامی سطح پر اجتماعات میں (اجتماع گاہ میں) دفتر کی ترکیب کریں اور ان میں اہم وکلاء و ججز کی شرکت یقینی بنائیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں وکلاء و ججز کے حلقے کی ترکیب کی جائے۔

﴿10﴾ مختلف علاقوں اور حلقوں میں رہائش پذیر وکلاء و ججز اور دفتری عملے کا رابطہ مقامی ذمہ داران سے کرائیں تاکہ ان وکلاء و ججز کو بھی ان کے رہائشی علاقوں میں مدنی کاموں میں شامل کرنے کی ترکیب بنائی جاسکے۔

﴿11﴾ مدنی قافلہ، مدنی انعامات، مختلف مدنی کورسز کے ماہانہ اہداف:

مجلس کے ہر سطح کے ذمہ داران اپنے نگران کے مشورے سے مدنی قافلوں، مدنی انعامات، اصلاح اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس، مدنی تربیتی کورس، فیضان نماز کورس کے ماہانہ اہداف طے کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی فرمائیں۔

بنائیں جس میں اپنے پچھلے ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ اور آئندہ ہفتے کے جدول کی تیاری وغیرہ شامل ہو۔

﴿18﴾ متعلقہ نگران مشاورت/انگرن مجلس سے مربوط رہیں، انہیں اپنی کارکردگی سے آگاہ رکھیں اور ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ جو نگران سے جتنا زیادہ مربوط رہے گا وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

﴿23﴾ متعلقہ رکن شوری اور نگران کا بینہ کی اجازت سے وقتاً فوقتاً اپنی مجلس کے ذمہ داران کے سنتوں بھرے اجتماع کی ترکیب کرتے رہیں تاکہ پرانے اسلامی بھائیوں کی یاد دہانی اور نئے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سامان ہوتا رہے۔

﴿20﴾ یاد رہے کہ متعلقہ رکن شوری ضرورتاً ان مدنی پھولوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔

﴿21﴾ ذمہ داران اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لئے مندرجہ ذیل امور کو اپنانے کی کوشش فرمائیں:

﴿﴾ فرض علوم سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ فرض علوم سیکھنے کے لیے کتب امیر اہلسنت، بہار شریعت، فتاویٰ رضویہ، احیاء العلوم وغیرہ کے مطالعہ کی عادت بنائیں۔ (ہفتہ وار اجتماعی طور پر دیکھے جانے والے ”مدنی مذاکرے“ میں اڈل تا آخر شرکت کو یقینی بنائیے، اس کی برکت سے علم

دین کا لازوال خزانہ ہاتھ آئے گا نیز ”مدنی انعام نمبر: 47“ پرنٹ کرتے ہوئے مدنی چینل کے سلسلے، اصلاحی بیانات کے ساتھ ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ اور فیضان فرض علوم میموری کارڈ (Memory Card) سننے کا بھی سلسلہ رکھیے، اس سے بھی کثیر فرض علوم حاصل ہوں گے۔ ان شاء اللہ عزوجل)

﴿﴾ عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہوں۔ روزانہ کم از کم دو (2) گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیجئے مثلاً مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کے لئے روزانہ فکر مدینہ کا ذہن دینے کے لیے کم از کم دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، مدنی

دورہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، بعد فجر مدنی حلقہ، صدائے مدینہ، چوک درس، پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات میں شرکت وغیرہ۔

﴿﴾ اپنے مدنی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عمر بھر میں یکسخت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ کم از کم

3 دن جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بناتے رہیں۔

﴿﴾ بلا ناغہ فکر مدینہ کرتے ہوئے عطار کا دوست، پیارا، منظور نظر اور محبوب بننے کی سعی جاری رکھیے، استقامت پانے کے لئے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے نیز ضروری گفتگو کم لفظوں میں کچھ اشارے میں

اور کچھ لکھ کر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نگاہیں جھکا کر رکھنے کی ترکیب بنائیے۔

4	7	رکن شوری/انگرن مجلس	ملک	ریجن ذمہ داران	//
---	---	---------------------	-----	----------------	----

وضاحت: رکن شوری/انگرن مجلس، پاکستان سطح کی مجلس (ریجن ذمہ داران) کا ہر ماہ مدنی مشورہ فرمائیں۔ ایک ماہ بالمشافہ اور ایک ماہ بذریعہ انٹرنیٹ۔

﴿﴾ معمول (Routine) سے ہٹ کر ہونے والے شعبہ جات کے مدنی مشوروں یا ذمہ داران کے سنتوں بھرے اجتماعات کے لیے اولاً ”اجازت نامہ“ مکمل پر کر کے طے شدہ طریق کار کے مطابق متعلقہ ذمہ دار کو جمع کروانا ہوگا۔ (مزید وضاحت کے لیے ”اجازت نامہ برائے مدنی مشورہ یا ذمہ داران کا سنتوں بھرے اجتماع“ کے مدنی پھول بغور ملاحظہ کر لیجئے، یہ اجازت نامہ پاکستان انتظامی کا بینہ دفتر سے میل ہو چکا ہے، بوقت ضرورت دوبارہ حاصل کیا جاسکتا ہے)

﴿﴾ کارکردگی جمع کروانے کی تاریخیں: ذیلی مجلس: 2: کا بینہ: 4: زون: 5:

﴿﴾ ریجن: 6: ملک: 7:

﴿14﴾ مدنی مشوروں کی کثرت سے بچنے کے لیے مقرر کردہ سطح کے علاوہ کسی اور سطح کا مدنی مشورہ لینے کے لیے متعلقہ نگران سے اجازت ضروری ہے ﴿﴾ جب بڑی سطح کے ذمہ دار دیگر چٹلی سطح کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ کر لیں تو پھر اس ماہ ان کا ماہانہ مدنی مشورہ نہیں ہوگا ﴿﴾ اسی طرح جس ماہ نگران کا بینہ شعبے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمائیں گے، اس ماہ بھی شعبہ ذمہ داران ماہانہ مدنی مشورہ نہیں کریں گے۔ (شعبے کے مدنی کام کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نگران سے شعبے کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ کروانا مفید ہے)

﴿15﴾ پاکستان/بیرون ملک سطح کے ذمہ دار ہر عیسوی ماہ کی 7 تاریخ تک کارکردگی، پاکستان انتظامی کا بینہ/مجلس بیرون ملک دفتر اور متعلقہ رکن شوری کو میل کر دیں۔ (یاد رہے! کارکردگی مدنی مشورے سے مشروط نہیں، اگر کسی وجہ سے مدنی مشورہ نہ ہو سکے تب بھی مقررہ تاریخ پر اپنے نگران کو کارکردگی پیش کر دیں)

﴿16﴾ ہر ذمہ دار ہر ماہ کا پیشگی جدول عیسوی ماہ کی 19 تا 22 تاریخ تک اپنے نگران سے منظور کروائے، پھر اس کے مطابق پیشگی اطلاع کے ساتھ اپنے جدول پر عمل کرے اور مہینہ مکمل ہونے کے بعد 1 تا 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اپنے نگران کو پیش کرے۔

﴿17﴾ متعلقہ نگران کی مشاورت سے شعبہ ذمہ داران منگل کے روز ضرورتاً ایک دو گھنٹے کے لیے تحریری کام کی ترکیب

✽ مرکزی مجلس شوریٰ، کابینہ اور اپنے شعبے کے مدنی مشوروں کے ملنے والے مدنی پھولوں کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور متعلقہ تمام ذمہ داران تک بروقت پہنچانے کی ترکیب بنائیے۔

✽ اراکین مجلس، مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب بنائیں نیز ہفتہ وار Live مدنی مذاکرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ریکارڈ ڈمدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے سلسلوں کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی مدنی التجاء ہے۔

✽ دوران مدنی کام و ملاقات امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطار یہ میں مرید اطلب بنانے کی کوشش کرتے رہیں، مرید اطلب ہو جائیں تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطار یہ سے مکتوب کی ترکیب اور شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطار یہ حاصل کرنے اور روزانہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں۔

✽ مدنی کام استقامت کے ساتھ کرنے کے لئے بالخصوص مدنی انعام نمبر 24 اور 26 کے عامل بن جائیں ✽ مدنی انعام نمبر 24: کیا آج آپ نے مرکزی مجلس شوریٰ، زون، مشاورتیں و دیگر تمام مجالس جس کے بھی آپ ماتحت ہیں، ان کی (شریعت کے دائرے میں رہ کر) اطاعت فرمائی۔ ✽ مدنی انعام نمبر 26: کسی ذمہ دار (یا عام اسلامی بھائی) سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہ راست مل کر (دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ) سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ عزوجل بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے؟

مدینہ: بیرون ملک کے ذمہ داران متعلقہ رکن شوریٰ کے مشورے و اجازت سے ان مدنی پھولوں میں ترمیم و اضافہ کر سکتے ہیں۔

مرکزی مجلس شوریٰ ﴿دعوت اسلامی﴾

مدنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

تاریخ اجراء (پ ڈیٹ مدنی پھول): ۱۵ رمضان المبارک ۱۴۴۰ھ / 20 مئی 2019ء